

برائے فوری اجراء

برامپٹن کے رہائشیوں کو اکتوبر 2022 کے میونسپل الیکشنز میں کام کرنے کی دعوت دی جاتی ہے

برامپٹن، آن (16 جون 2022) – مورخہ 24 اکتوبر کو منعقد ہونے والے ووٹنگ ڈے پر انتظامات سنبھالنے اور کسٹمر سروس کے امور میں مدد فراہم کرنے کے لیے میونسپل الیکشن ورکر بننے کے لیے عوام الناس کی جانب سے 17 جون سے درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ 2,000 سے زیادہ آسامیاں خالی ہیں۔ 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے برامپٹن کے رہائشیوں کو ترجیح دی جائے گی۔

نئی مہارتیں حاصل کرنے، سٹی کے عملہ کو پہچاننے اور اپنی کمیونٹی سے مربوط ہونے کا یہ سنہری موقع ہے۔ ہمارے پاس کئی آسامیاں خالی ہیں اور ملازمت کی مکمل تفصیلات 17 جون سے www.brampton.ca/bramptonvotes پر دستیاب ہوں گی۔

بروز اتوار، 19 جون کو گارڈن اسکوائر میں منعقد ہونے والے 'برامپٹن سلیبریٹس پرائیڈ' کے ایونٹ میں الیکشن ٹیم سے ملاقات کریں! عملے سے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے لورنا بیسل (Lorna Bissell) فاؤنڈیشن کے اس پار واقع کیوسک پر تشریف لے جائیں اور موقع پر ہی درخواست دیں۔

فوری حقائق:

- دلچسپی رکھنے والے خواتین و حضرات 17 جون سے www.brampton.ca/bramptonvotes پر آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔
- طبع شدہ صورت میں درخواست فارم مورخہ 17 جون سے اس پتہ پر دستیاب ہوں گے: سٹی ہال میں موجود سٹی کلرک آفس، 2 ویلنگٹن اسٹریٹ ویسٹ۔
- سٹی کلرک آفس دوران ہفتہ صبح 8:30 تا شام 4:30 تک کھلا رہتا ہے۔
- جن افراد کی تقرری ہو جائے گی، انہیں ستمبر 2022 میں مطلع کیا جائے گا اور انہیں 24 اکتوبر سے پہلے دو سے تین گھنٹے کی تربیت دی جائے گی، بشمول کلاس اور مواد کا جائزہ لینے کے بعد 24 اکتوبر کو انہیں 14 گھنٹے تک کام کرنا ہو گا۔
- ایڈوانس ووٹنگ کے لیے آسامیاں بھی دستیاب ہیں۔ ایڈوانس ووٹنگ مورخہ 7، 8، 9، 14 اور 15 اکتوبر کو منعقد ہو گی۔
- ٹریننگ اور معاوضہ ادا کیا جائے گا۔
- سابقہ تجربہ اور کمپیوٹر میں مہارتوں کے حامل افراد کو ترجیح دی جائے گی۔

اقتباس

"350,000 سے زیادہ اہل ووٹر کی تعداد کے ساتھ، میونسپل الیکشن کے کامیاب انعقاد کے لیے الیکشن ورکرز کی معاونت نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ خدمت کے جذبے سے سرشار تمام خواتین و حضرات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ درخواست دیں۔ چاہے آپ میونسپل گورنمنٹ کے بارے میں مزید جاننے کے خواہاں ایک طالب علم ہوں، برامپٹن میں نئے آنے والے ہوں اور مقامی امور کا تجربہ کرنے کے خواہشمند ہوں یا ایسے رہائشی ہوں جو اپنی کمیونٹی میں مفید کردار ادا کرنا چاہتے ہوں، تو یہ موقع آپ کے لیے ہی ہے!"

- پیٹر فے، سٹی کلرک اور ریٹرننگ آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca